

## 12425-رمضان میں بے ہوش رہنا

### سوال

اگر کوئی شخص ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو اور رمضان المبارک کا مینہ شروع ہو جائے اور اسے باہم روز بعد ہوش آئے تو کیا حکم ہوگا؟

### پسندیدہ جواب

یہ سوال شیخ محمد بن علیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کا جواب تھا :

رائع قول کے مطابق تو یہی ہے کہ : بے ہوشی یا پھر مرض اور بغیر مرض کے عقل زائل ہونے سے نماز ساقط ہو جاتی ہے اس لیے اس پر نماز کی قضاۓ واجب نہیں ہوگی، لیکن روزوں کی قضاۓ واجب ہے اس لیے بے ہوشی کی حالت میں جن یام کے روزے نہیں رکھے اس کی قضاۓ کرے گا۔

نماز اور روزے میں فرق یہ ہے کہ نماز میں تکرار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ فوت شدہ کی قضاۓ نہیں کرے گا تو دوسرے دن ادا کرے گا، لیکن روزوں میں تکرار نہیں ہے، اسی لیے حاضرہ اور نفاس والی عورت نماز کی قضاۓ نہیں کرتی اور روزے کی قضاۓ کرتی ہے۔